



سوال

(563) كفاره قسم نقدی کی صورت میں ادا کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میری والدہ کے ذمہ قسم کا کفارہ ہے تو کیا میں دس مسکینوں کے کھانے کی قیمت کو سعودی ریال میں ادا کر کے کسی فلاحی تنظیم کو دے سکتا ہوں؟ اگر سعودی ریال کی صورت میں اسے ادا کرنا درست ہو تو کتنے ریال ادا کرنے چاہئیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہوں یا زندہ ہوں اور انہوں نے آپ کو کفارہ ادا کرنے کی اجازت دے دی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ ان کی طرف سے کفارہ ادا کر دیں لیکن کفارہ کھانے کی صورت میں ہونا چاہئے نقدی کی صورت میں نہیں کیونکہ قرآن کریم اور سنت مطہرہ میں کھانے کا ذکر ہے۔ ضروری ہے کہ کھجور یا گندم یا ہر اس جنس میں سے جو شہر کی خوراک ہو نصف صاع یعنی تقریباً ڈیڑھ کلو فی مسکین ادا کیا جائے۔ اگر آپ انہیں دوپہر یا شام کا کھانا کھلا دیں یا ایسے کپڑے دے دیں جن میں نماز جائز ہو مثلاً قمیض یا تہ بند اور چادر تو یہ بھی جائز ہے۔

صداما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 3 ص 530

محدث فتویٰ